

## أحاديث لا تصح في فضل عشر ذي الحجة

HADIITH EZITALI NTUUFU, EZOGERA KU BULUNGI BW'ENNAKU  
EKKUMI EZISOOKA KU MWEZI GWA DHUL-HIJJAH

**Kiwandiikiddwa:**  
**FAISWAL ALI MUWONGE**

**Contacts:**  
**Tel: 256 751 858015**  
**Email: faiswalali5@gmail.com**

بسم الله الرحمن الرحيم

## أحاديث لا تصح في فضل عشر ذي الحجة مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد و على آله، وصحبه  
أجمعين.

أما بعد:

فإن مما يُحزن كل مؤمن محب للسنة أن يرى للأحاديث الضعيفة والموضوعة قبولا عند بعض الناس، وذلك بسبب تبني بعض من يعدونه من أهل العلم لها! وكذلك حرص الشيطان على تزيينها لهم، بل أصبح الكثير منهم يسعى في نشرها في وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، والناظر لصنيع هؤلاء يجد أن أهدافهم مختلفة فمنهم للإفساد في الدين وهدم السنة، ومنهم لاتباع هواه بداعي التقرب إلى الله بزعمهم! وبعضهم بسبب الجهل وعدم العلم، والله المستعان.

ولقد أدى انتشار الأحاديث المكذوبة بسبب تعلق الناس بها إلى رواج البدع والمحدثات بين العامة والله المستعان.

قال العلامة المحدث الشيخ الألباني-رحمه الله:- "من المصائب العظمى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى، انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم...، وقد أدى انتشارها إلى مفسد كثيرة، منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من الأمور التشريعية". السلسلة الضعيفة(47/1) باختصار.

لكن الله تبارك وتعالى سخر لهذه الأحاديث فرسانا كشفوا غوارها، وبيّنوا وضعها وحذروا الناس منها. يقول الإمام السخاوي -رحمه الله- ذاكرا حال هؤلاء الفرسان: " وهم الذين خصهم الله بنور السنة، وقوة البصيرة فلم تخف عنهم حال مفتر ولا زور كذاب، فبيّنوا بنقدهم فسادها وميزوا الغث من السمين". فتح المغيث(260/1)

فعلينا أن نحرص أيها الكرام على تصفية ديننا الحنيف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يدخلها أهل الأهواء والجهل، فالصحيح والله الحمد يغني عنها.

ولذا أحببت أن أذكركم أيها الأحبة في هذا المقال بطائفة من الأحاديث المكذوبة التي لا تصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر ذي الحجة والأضحية مع نقل كلام العلماء فيها، عسى الله أن ينفعني وإياكم بالعلم بها لنجتنبها ونحذر الناس منها بإذنه سبحانه.

## أبو فاطمة فيصل علي مونغني

Tel: 256 751 858015

Email: faiswalali5@gmail.com

**HADIITH EZITALI NTUUFU, EZOGERA KU BULUNGI BW'ENNAKU  
EKKUMI EZISOOKA KU MWEZI GWA DHUL-HIJJAH**

### **ENNYANJULA**

Amateendo amalungi era amajjuvu, ga Allah omulezi w'ebitoonde. Okusaasira n'emirembe bidde eri asiinga ekitiibwa mubabaka, nabbi waffe Muhammad, awamu n'ekubantu be, n'ekubaswahaaba be bonna.

#### **Oluvannyuma lw'ebyo:**

Mubimu kubinakuwaza buli mukkiriza yenna ayagala sunnah, kwekulaba hadiith ennafu, awamu ne hadiith enjweteke nga zikirizibwa eri abantu abamu.

Ekyyo kiri bwekityo, olw'ensonga nti abamu kubabalibwa okubeera abamanyi baziziimbirako, sso nga ate ne sitaane erulunkana nnyo okuzibawundira, nebukeesa kumakya nga abantu bangi bazisaasanya kumikutu gy'empuliziganya egyenjwulo.

Yenna eyetegereza abakozi bebikolwa ebifaanagako bwebityo, asaanga nga ebigeendererwa byabwe mukukola ekyo byanjawulo. Abamu babeera bafa kwonoona ddiini nakumenyawo sunnah, abalala babeera bagoberezi bakwagala kwamyoyo gyabwe, nga bbo basuubira nti baseembera eri Allah, ate abalala bakola ebyo, lwabutamanya.

**Allah atutaase.**

Okusaasana kwa hadiith ez'obuliimba olw'abantu okuzeekwatako, kiviiriddeko bidi'aat okufuna akatale.

Yangamba Sheikh Al-Albaaniyy رحمه الله nti: **“Mumitawaana eminene egyagwira abasiraamu okuviira ddala kumireembe egyasooka, kwekusaasana kwa hadiith ennafu, ne hadiith enjweteke mubbo...era okusaasana kwazo kuzadde ebibi biyitirivu; ebimu kubbyo biri munzikiriza, ate ebirala biri mukusiinza”.**

Naye Allah oweekitiibwa yagoonza hadiith ezo ez'obuliimba eri eggye mumagyege, lyolesa obumogo bwazo, n'erinnyonnyola obunafu awamu n'obufu bwazo, era neryewaza abantu hadiith zino enfu era ez'obuliimba.

Yagamba Imaam As-sakhaawiy رحمه الله bweyali ayogera kumbeera z'eggye eryo nti: **“Beebo Allah beyayawula kubasigadde n'ekitangaala kya sunnah, era nabawa obukeenkufu obwamanyi, nekiba nga tewali mbeera yamulimba yenna yabeekweka. Boolesa olw'okusuunsula kwabwe hadiith enfu muzzo, era nebaawula hadiith embi (ennafu) kunnungi (entuufu)”.**

Abebitiibwa, kitukakatako fenna okubeera ab'omululu eri okutukuza, n'okulongoosa eddiini yaffe okuva eri hadiith ennafu n'enjweteke ezijiyiingizibwamu abazuuzi muddiini, nabatamanyi. Eddiini yaffe hadiith entuufu zerina zijimala.

Kale n'olwensonga eyo, njagadde mbajjukize ezimu ku hadiith ez'obuliimba, ezitali ntuufu kuteekebwa ku nabbi صلى الله عليه وسلم ezogera kubulungi bw'omwezi gwa Dhul\_hijjah, awamu n'okuleeta ebigaambo byabamanyi byebayogera kuzzo, oba olyawo Allah oweekitiibwa anatugasa n'okuzimanya tusobole okuzeewala, tuzeewaze nabantu abalala.

**FAISWAL ALI MUWONGE**

**AKABEENJE AKALI MUKULIIMBISA, N'OKUJWETEKA EBIGAMBO  
KUMUBAKA ALAIHI SWALAATU WA SALAAM.**

Omubaka Alaihi swalaatu wa salaam mu hadiith mpiritivu nga alabula abantu ba Ummah okuva eri akabi akali mukumwogeza byataayogera. Ezimu ku Hadiith ezo zezino wammanga:

عَنْ رَبِيعِ بْنِ جِرَاشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ» متفق عليه

Hadiith eva ku **Rib'iy bin Hiraash**, agamba nti yawulira **Ali** nga asoma khutubah nagamba nti: omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yagamba nti: “**Temunjwetekangako ebigambo, mazima yenna ananjwetekako ebigambo wakuyingira muliro**”.

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه

Hadiith eva ku **Abdul-Azeez bun Suhaib**, nga naye ajijja ku **Anas bin Maalik**, yagamba nti: Mazima nnemesebwa okubanyumiza hadiith ennyinji, olwensonga nti omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yagamba nti: “**Yenna anjwetekako obuliimba nga agenderedde, yetegekere ekifo kye mumuliro**”.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه

Hadiith eva ku **Abu Saalih**, nga naye ajijja ku **Abu Hurairah** yagamba nti: Omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yagamba nti: “**Yenna anjwetekako obuliimba nga agenderedde, yetegekere ekifo mumuliro**”.

قَالَ الْمُغْبِرَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَيَّ أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه

**Al-Mughiirah** yagamba nti: nawulira omubaka Alaihi swalaatu wa salaam nga agamba nti: “**Obuliimba obujwetekeddwa kunze tebubaanagana nabuliimba bujwetekeddwa kumulala. Yenna anjwetekako obuliimba mubugenderevu, yetegekere ekifo mumuliro**”.

**EZIMU KU HADIITH ENFU, ENNAFU, N'ENJWETEKE KUBULUNGI  
BWENNAKU EKKUMI EZISOOKA KU DHUL-HIJJAH**

1- عن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة". رواه الطبراني في الأوسط (5320)، والصغير (789)، والهيثمي في مجمع الزوائد (5067).

Hadiith eva ku Umar agamba nti: “**Omubaka صلى الله عليه وسلم bweyaliinga ayitiddwako ennaku mumwezi gwa Ramadhan, yaziriwiraanga mu mwezi gwa Dhul-Hijjah**”.

Imaam At-twabaraaniyy yagamba nti:

لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق بن إبراهيم النسيبي.

“**Hadiith eyo teyogerwa kuva ku Umar okujjako nga eyita mu kkubo eryo, (kyokka ate) yeyawula nayo Ibrahiim bun Ishaq An-naswiibiyy (As-swiiniyy)**”.

Ate yye Imaam Al-Haythamiyy yagamba nti:

وَفِي إِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَهَذَا أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّيْنِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

“**Mu sanad ya hadiith esoose (ategeeza eno yennyini), n’eno (ategeeza hadiith ndala; tugenda kugyiraba mumaaso), mulimu Ibrahiim bun Ishaq As-swiiniyy, ate nga munafu**”.

Imaam Ad-daarqatwuniyy bweyali ayogera ku Ibrahiim bun Ishaq As-swiiniyy yagamba nti:

متروك

“**Alekebwa**”.

Soma:

ميزان الاعتدال: (1/18)

Hadiith eyo **Ibrahiim bun Ishaq** ajijja ku **Qays bun Ar-rabii’e Al-Asadiyy Al-Kuufiyy**.

Oyo nno abamanyi bayawukana muyye.

**Mubamunafuya mulimu;** Abubaker Al-Bayhaqiyy, Abu Haatim Ar-raaziyy, Abu zur’ah Ar-raaziyy, Ahmad bun Hambali, An-nasaai, Ibrahiim bun Ya’aquub Al-Juuzajaniyy, Ad-darqatwuniyy, Aliyyu bun Al-Madiiniyy, Muhammad bun Ismael Al-Bukhari, Muhammad bun Abdillah Al-Makhramiyy, Wakii’e bun Al-Jarraah, Yahya bun Saeed Al\_Qat-twaaniyy, Yahya bun Ma’een, nabalala.

Munjatula ya hadiith eyo endala:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بأسا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة". مصنف ابن أبي شيبة: 8922، المعجم الأوسط: 5745 بإسناد ضعيف.

“**Omubaka صلى الله عليه وسلم yaliinga takirabamu buzibu okuliwira Ramadhan mukkumi erisooka ku Dhul-Hijja**”.

Sanad y'enjatula eyo nayo nafu, nga bwetwayogedde kunjatula eyasoose.

### HADIITH ENTUUFU MUMULYANGO OGWO

عن قَيْسِ الْعَدِيِّ: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ- قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا كَانَتِ الْمُرَاجَعَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا- فَأَمَرَهُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. قَالَ: وَلَا تَقُولَهُ: إِنَّ أَبَاكَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ". رَجَالُهُ ثِقَاتٌ. إتحاف الخيرة المهرة: 117/3.

Hadiith eva ku Qays Al-Abdiyy agamba nti: “Mazima omusajja yabuuza Umar bun Al-Khattwaab kukuliwira Ramadhan munnaku ekkumi eza Dhul-Hijjah. Qays agamba nti: simanyi biki byebeddamu wakati wabwe, wabula yamulagira okuliwira Ramadhan munnaku ekkumi eza Dhul-hijjah. Qays yagamba mutabani we Al-Aswad nti: Togambanga nti: mazima kitaawo ekyo yakiwulira kuva ku Umar”.

Imaam Ibin Hajar –Allah amusaasire- yagamba nti:

روى ابن أبي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَجِبُ ذَلِكَ. (فتح الباري 4/189)

“Ibin Abi Shaybah yanyumya mu muswannafu gwe, ne sanad entuufu okuva ku Umar, nti Umar yaliinga ayagala okuliwira Ramadhan munnaku ekkumi eza Dhul-Hijjah”.

Oba olyawo, Ibin Hajar yali ayogera ku hadiith ya Umar egamba nti:

عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ» مصنف ابن أبي شيبة: 9515

Hadiith eva ku umar, yagamba nti: “Tekirina mutawaana, okuliwira Ramadhan mukkumi Iya Dhul-Hijjah”. Allah yasiinga okumanya.

Kijjibwa ku swahaba gwebayita Ali رضي الله عنه nti yagamba:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ، فَإِنَّهُ شَهْرٌ نُسُكٌ» مصنف ابن أبي شيبة: 9516

Hadiith eva ku Abu Ishaq, nga naye ajijja ki Al-Haarith, nga naye ajijja ku Ali, yagamba nti: “Omuntu yenna alina ennaku ez’okuliwa mu Ramadhan, taziriwira mu Dhul-Hijjah; mazima ggwo mwezi gwa mikolo gya Hijjah”.

Tugamba nti: hadiith eyo nafu, olwensonga nti Al-Haarith (Al-A’awar) ali wakati wa Abu Ishaq ne Ali, munafu.

Yamunafuya Yayha bin Ma’een; yagamba Amru bun Ali nti:

كان يحيي، وعبد الرحمن لا يتحدثان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.

“Yahya ne Abdurahman baalinga tebanumya hadiith yonna eva ku Abu ishaq, nga ajijja ku Al-Haarith, nga ajijja ku Ali”.

Abu Bakar bun Abi Khaythamah yagamba nti:

قيل ليحيى بن معين: الحارث صاحب علي؟ فقال ضعيف.

“Yahya bun Ma’een yabuuzibwa ku Al-Haarith munne wa Ali? Yagamba nti: munafu”.

Sso ate yye Ali bun Al-Madiiniyy yagamba nti:

الحارث كذاب

“Al-Haarith mulimba nnyo”.

Mubalala abamunafuya mulimu: Abu Haatim Ar-raaziyy, Abu Zur-‘ah Ar-raaziyy, An-nasaai, Ad-daaraqatwuniyy, Adh-dhahabiyy, nabalala.

### **BINO BIKULU:**

**1- Tekirina mutawaana gwonna omuntu okuliwira Ramadhan munnaku ekkumi eza Dhul-Hijjah;** wabula ate kisuubirwa n’okuba nti, omuntu aliwira Ramadhan munnaku ekkumi eza Dhil-Hijjah, empeera ye ebeera nnene, olw’okusiibirakwe munnaku ezo ez’enkizo.

Waliwo enjawukana mubatukulemba abalongoofu kunsonga eyo; nga abamu bagamba nti: kitamwa okuliwira Ramadhan munnaku ekkumi eza Dhul-Hijjah, ate nga abalala bagamba nti: tekitamwa.

Naye ekigambo ekisiinga obutuufu kunsonga eyo –Allah yasiinga okumanya-, kwekuba tewali kutamwa kwonna mwekyo; era ekyo kyekijjibwa ku Umar رضي الله عنه .

Soma ‘Fat-hul Baari’ eky a Ibin Rajab: 9/16, ‘Latwaaiful Ma’aarif’ nakyo kikye: 1/266, ‘Al-Insuaaf’ eky a Mar-daawiyy: 7/539, ‘Kasshaaful Qinaa’ eky a Al-Buhuutiyy: 2/333, ‘Ash-sharhul Mumti’i’ eky a Ibin Uthaymiin: 6/443.

**2- Abamanyi bayawukana kubulamuzi bw’okusiiba olusiiba olwa sunnah, nga tonnaba kuliwa Ramadhan;** abamanyi abasiinga obungi bagenda n’ekigamba nti: kikkirizibwa. Ekyonno kyekigambo kya ba Hanafiyyah, Maalikiyyah, ne Shaafi’iyyah. Ba Hanafiyyah balaba nti kikkirizibwa awatali kutamwa kwonna, ate bbo ba Maalikiyyah ne Shaafi’iyyah balaba nga kikkirizibwa, naye kitamwa.

Sso ate bbo ba Hanaabilah bagenda n’ekigamba nti: kiri haraam okusiiba olusiiba lwonna olwa sunnah, nga tonnaliwa Ramadhan; era olunaku lwonna olwa sunnah lwosiiba nga tonnaliwa Ramadhan, terukkirizibwa.

Obujulizi ba Hanaabilah bwebesembesa, hadiith ya Abu Hurairah, eri mu musnad Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ " رواه أحمد في المسند: 8621

Hadiith eva ku Abu Hurairah, nga naye ajijja kumubaka Muhammad صلى الله عليه وسلم yagamba nti: “**Omuntu yenna atuuka ku Ramadhan endala, kyokka nga akyalina ennaku mu Ramadhan ewedde zatannaba kuliwa, Ramadhan eno endala gyasaanze tekkirizibwa kuva kuyye. N’omuntu yenna asiiba olusiiba lwonna olwa sunnah, kyokka nga akyalina ennaku mu Ramadhan zatannaba kuliwa, olusiiba olwo olwa sunnah terukkirizibwa kuyye, ppaka nga amaze kuliwa**”.

Tugamba nti: hadiith eyo nafu, olwensonga nti mu sanad yaayo mulimu omwami gwebayita **Abdullahi bun Lahii’ah**, nga naye munafu nnyo, nga bwekimanyiddwa obulungi.

**Imaam Ahmad** alina endaba endala kunsoonga eno; nga nayo kwekuba nti kikkirizibwa omuntu okusiiba olusiiba olwa sunnah nga tannaliwa Ramadhan.

**Ekigambo ekituufu gyetuli, kyekigambo kyabamanyi abasiinga obungi (Jumhuur). Allah yasiinga okumanya.**

2- **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.** رواه الترمذي (758)، وابن ماجه (1728).

Hadiith eva ku Abu Hurairah, nga ajijja ku nabbi صلى الله عليه وسلم yagamba nti: “**Teriiyo nnaku nnganzi eri Allah, era nga Allah ayagala nnyo okumusiinziza muzzo, kusiinga naku kkumi ezisooka ku Dhul-Hijjah. Kwenkanankana okusiiba kwabuli lunaku muzzo okusiiba kwamwaka mulaamba, n’okuyimirira kwabuli kiro muzzo okuyimirira kw’ekiro kya laylatul Qadri**”.

**Imaam At-tirmidhi** bweyamala okuleeta hadiith eyo mu sunan ye yagamba nti:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَسْعُودِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ.

Hadiith eyo nrafu; tetujimanyi okujjako mu hadiith za **Mas’uud bin Waaswil**, nga ajijja ku **An-nahhaas**.

Kimanyiddwa bulungi nnyo nti: **Imam At-tirmidhi** kasita agamba nti:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

Abeera ategeeza nti hadiith eyo nafu.

**Imaam Al-baaniyy** yagaamba nti:

"الوقال- يعني الترمذي- : " حديث غريب " فقط، فإنما يعني أن إسناده ضعيف". سلسلة الضعيفة: 185/2

“Singa **Imaam At-tirmidhi** agamba nti: ‘**Hadiithun Ghariibun**’, natayongerako kigambo kirala, abeera ategeeza nti sanad ya hadiith eyo nafu”.



Ekituufu kiri nti: hadiith eyo nnafu, nga Imaam Abu Isa At-tirmidh bweyagamba, olwensonga bbiri:

1- **Mas'uud bin Waaswil Al-Baswariyy** abamanyi bamunafuya.

Mubaamunafuya mulimu: Abu Dauda As-sijisitaaniyy, Abu Dauda At-twayaalisiyy, Ad-daarqatwuniyy, Ibin Hajar Al-Asqalaaniyy, nabalala.

2- **Nahhaas bin Qahm Al-Qaysiyy Al-Baswariyy** naye abamanyi bamunafuya.

**Imaam Al-Baaniyy** yatuuka n'okugamba nti:

"وقد اتفقوا على تضعيفه". سلسلة الضعيفة: 243/11

"**Begattira kubunafu bwe**".

**Imaam Ahmad bun Hambali** yagamba nti:

كان يحيي بن سعيد يضعف حديثه.

"**Yahya bun Saeed** yaliinga anafuya hadiith ze, amakulu: hadiith za Nahhaas bin Qahm".

Mubalala abaamunafuya, mulimu: Yayha bin Saeed Al-Qat-twaaniyy, Mu'aawiyah bin Saalih, Ad-daarimiyy, Abu Haatim Ar-raaziyy, An-nasaai, Adh-dhahabiyy, Ibin Hajar, Abu Dauda As-sijisitaaniyy, Ibin Hibbaan, Ad-daarqatwuniyy, Abdurahman bun Qays Az-za'afaraaniyy, nabalala.

Kale olw'abaami abo babiri, tugamba nti sanad ya hadiith eyo nafu nnyo.

Soma: 'Sharhu sunnah' ekya **Al-Bag-wiyy: 4/346**, 'Mish-kaatul Maswaabiih': 1/462, 'Tamaamul Minna': 1/354, 'silsilatul Adh-dha'iifah': 11/242, 'Dha'iif At-tirmidhi': 1/88, 'Dha'iif At-tar-ghiih': 1/364, ebya **Al-Baaniyy**, ne 'Latwaaiful Ma'aarif' ekya **Ibin Rajab: 1/261**

#### HADIITH ENTUUFU MUMULYANGO OGWO

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ" يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ".

Hadiith eva ku **Saeed bun Jubair**, nga naye ajijja ku **Ibin Abbaas** –Allah amusiime-agamba nti, Omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti, "**Teriiyo nnaku, nga omulimo omulungi muzzo gwagalibwa byansusso eri Allah, kusiinga nnaku zino ekkumi.**" Baswahaba bamubuuza nti: Owange ggwe omubaka wa Allah, kekubeere kulwaana mukkuo lya Allah? Omubaka kwekubaddamu nti, "**Kekubeere kulwaana mukkuo lya Allah; okujjako omuntu agenze mulutalo wamu n'emmaali ye, kwebyo byombi nekutadda nekimu.**"

Hadiith eri mu **Bukhari: 969**, ne **sunan Abi Dauda: 2438**, ne **Tirmidhi: 757**, ne **Ibn Maajah: 1727**, ne **Musnad Ahmad: 1968, 3139, 3228**.

**KANO KAKULU:**

Waliwo Iwojja okusaanga hadiith eyo nga eva ku **Abdullahi bun Mas'uud**, kati nga mu 'Hilyatul Awliyaa' ekya **Abu Nu'aim: 6/116, 8/259**.

3- **عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَا تَعْمَدَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَا تَحْتَجِمَنَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٌ".** علل الدارقطني: 175/3، العلل التناهيّة: 60/2.

Hadiith eva ku Al-Haarith, nga naye ajijja ku Ali, nga naye ajijja ku صلى الله عليه وسلم mubaka

yagamba nti: **“Toliwira Ramadhan munnaku ekkumi eza Dhul-Hijjah, era togendereranga okusiiba olunaku olw’ejjuma lwokka, era tolumikanga (cupping/hijaamah) nga wasiibye, era toyiingiranga ekiyigo nga wasiibye”.**

Tugamba nti: **Hadiith eyo nnafulu**; olwensonga nti **Al-Haarith bun Abdillahi Al-A'awar** mulimba, nga Aliyyu bun Al-Madiiniyy bwagamba, ne Zuhair bun Mu'aawiyah Al-Ja'afiy, ne Zuhair bun Harb An-nasaai, ne Abubakar bun Ayyaash, ne Abu Ishaq As-sabii'iy, nabalala.

Wabula hadiith eyo yajjira mukku eddala nga ekoma ku Ali, tetuuka صلى الله عليه وسلم kumubaka

**Imaam Ad-daarqatwuniyy** mukitabo kye 'Al-'Ilal' yalaga amakubo hadiith eyo mweyayitira nga gakoma ku Ali, bweyamala nagamba nti:

وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ.

**Ekkubo erikoma ku Ali Iyerisiinga obutuufu, okusiinga erituuka** صلى الله عليه وسلم kumubaka

Ekyonno tekitegeeza nti **Imaam Ad-daarqatwuniyy** atuusizza amakubo ago akoma ku Ali; wabula ayagadde kukulaga nti liri ekkubo ffu nnyo okusiinga kugano agakoma ku Ali, newankubadde nga nago manafu.

ورواية الوقف خرجها عبد الرزاق 4 / 256، وابن أبي شيبة 2 / 460 و 480.

4- **عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَعْمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فَاتَّهَى أَيَّامُ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذَكَرَ اللَّهُ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ سَبْعِمِائَةً ضِعْفٍ "** شعب الإيمان: 3481.

Hadiith eva ku Saeed bun Jubair, nga naye ajijja ku Ibin Abbaas agamba nti: omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yagamba nti: **“Teriyyo nnaku zankizo eri Allah, nga n'omulimo ogokoleddwa muzzo mugaanzi eri Allah, kusiinga nnaku zino ekkumi.**

Muyitiririze muzzo okugaamba nti ‘LAAILAAHA ILLALLAHU’ , n’okugamba nti ‘ALLAHU AKBAR’; mazima zzo nnaku za Tah-liil, na Takbiir, nakwogera ku Allah ow’ekitiibwa. Era mazima okusiiba olunaku muzzo, kyenkanankana n’okusiiba omwaka mulaamba, ate omulimo gwonna ogukolebwa muzzo, gukubisibwamu emirundi egyisoba mulusaanvu (700)”.

Tugamba nti hadiith eyo, munjatula eyo, **hadiith nnaifu**; olwensonga nti mu sanad yaayo mwajjiramu **Yahya bun Isa Ar-ramliyy**, ate nga hadiith nnaifu.

Mubamu kubamanyi abamunafuya mulimu: Imaam Al-Bukhaari, Yahya bin Ma’een, Ibrahiim bin Ya’aquub, An-nasaai, nabalala.

Ekyokubiri, mu sanad yaayo mulimu **Abdullahi bun Muhammad bun Wahbi Ad-diinawariyy**, ate nga yali munafu, nga Imaam Ad-daarqatwuniyy bweyagamba.

5- **عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْتَارَ اللَّهُ الزَّمَانَ؛ فَأَحَبَّ الزَّمَانَ إِلَى اللَّهِ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، وَأَحَبَّ الْأَشْهُرَ إِلَى اللَّهِ ذُو الْحِجَّةِ وَأَحَبَّ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى اللَّهِ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ".** الكامل في ضعفاء الرجال: 5032، ذخيرة الحفاظ: 252/1، ميزان الاعتدال: 571/2-572، لطائف المعارف (ص 267).

Hadiith eva ku Suhailu, nga naye ajijja kukitaawe, nga naye ajijja ku Abu Hurairah, yagamba nti; omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yagamba nti: “Allah ow’ekitiibwa yaloonda ebiseera; ekiseera ekisiinga obugaanzi eri Allah, gyemyezi egy’emizizo. Ate omwezi ogw’emizizo ogusiinga obuganzi eri Allah, gwemwezi gwa Dhul-Hijjah. Ate ennaku ezisiinga okubeera enngaanzi eri Allah mu Dhul-Hijjah, z’ennaku ezisooka ekkumi”.

Tugamba nti: hadiith eyo nnaifu, olwensonga nti: **Abdurahman bun Abdillah bun Umar bun Hafswi bun Aaswim bun Umar bun Al-Khattwaab**, nga naye yajja hadiith eyo ku **Suhailu**, munafu, era hadiith ze tezeitwalibwa.

Mubamunafuya mulimu: **Abu Ahmad bun Adiiy Al-Jurjaaniyy**. Ono yagamba nti:

عامّة ما يرويه مناكير إما إسناداً، وإما متناً.

“Byonna byanyumya bitamwa mu sanad zabyo, ne mu matini gabyo”.

Mulimu Abubakar Al-Bayhaqiyy, Abu Haatim Ar-raaziyy, Abu Zur’ah Ar-raaziyy, Ahmad bun Hambali, Ahmad bun Shu’aib An-nasaai, Ibrahiim bin Ya’aquub, Yahya bin Ma’een, Imaam Al-Bukhari, Abu Nu’aim Al-Aswbahaaniyy, nabalala.

**Mumulyango guno temuli hadiith ntuufu nemu. Allah yasiinga okumanya.**

6- **عَنْ الطَّبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ صَامِ الْعَشْرِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَوْمٌ شَهْرٍ، وَلَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ سَنَةٌ، وَلَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ سَنَتَانِ "**. رواه ابن الجوزي في الموضوعات (112/2).

Hadiith eva ku **At-twibbiyy**, nga naye ajijja ku **Abu Saalih**, nga naye ajijja ku **Ibin Abbaas**, yagamba nti: omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yagamba nti: “**Omuntu yenna asiiba ennaku ekkumi ezisooka ku Dhul-Hijjah, buli lunaku lwasiiba afuna empeera zakusiiba mwezi. Ate bwasiiba olunaku olw’omunaana, afuna empeera zakusiiba mwaka. Ate bwasiiba olunaku olw’omwenda (olunaku lwa Arafah), afuna empeera zakusiiba myaka ebiri**”.

**Ibin Al\_Jawziyy** bweyamala okuleeta hadiith eyo yagamba nti:

وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ. قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: "الطَّبِيُّ كَذَّابٌ". وَقَالَ ابْنُ جِبَّانَ: "وَضُوحُ الْكُذْبِ فِيهِ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى وَصْفِهِ".

Hadiith eyo ssi ntuufu. Yagamba **Sulaiman At-taymiyy** nti: “**At-twibbiyy** muliimba nnyo”. Ate yye **Ibin Hibbaan** yagamba nti: “Obweyolefu bw’okuliimba muyye, buli mukitangaala nnyo, mumbeera nti teyetaaga nakunnyonnyolako bingi”.

### HADIITH ENTUUFU MUMULYANGO OGWO

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. فَقَالَ: «كَفَّارَةٌ سِنِّيْنِ». وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: «كَفَّارَةٌ سَنَةٍ». مسند أحمد: 195/37.

Hadiith eva ku **Abu Qataadah**, yagamba nti: mazima omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yabuuzibwa kukusiiba olunaku lwa Arafah, nagamba nti: “**Lusonyiyisa ebyonoono byamyaka ebiri**”. Era nabuuzibwa kukusiiba olunaku lwa Aashuuraa, nagamba nti: “**Lusonyiyisa ebyonoono bya mwaka**”.

Mukkubo eddala, omubaka Alaihi swalaatu wa salaam bweyabuuzibwa ku kusiiba olunaku lwa Arafah, yagamba nti:

«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» مسلم: 1162، والنسائي في الكبرى: 2826

“Lusonyiyisa ebyonoono by’omwaka oguwedde, n’ebyomwaka oguddako”.

Imaam An-nasaai bweyamala okuleeta hadiith eyo yagamba nti:

هَذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ عِنْدِي فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Eyo ye Hadiith esiinga obulungi gyendi mumulyango ogwo. Allah yasiinga okumanya.

**Ekyonno kyetusobodde okukunnganya mu hadiith enfu, n’ennafu, awamu n’enjweteke, ezogera kubulungi bw’ennaku ekkumi eza Dhul-Hijjah.**

وفقتنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

